



سوال

(348) دعوت ولیمہ لڑکوں والوں سے روپے لیٹر کرنا؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

دلہن کا والد دلہا کے والد سے کچھ روپیہ لے کر ولیمہ کی دعوت کرے۔ تو جائز ہے یا نہیں۔ چونکہ دلہن کے والد کے پاس روپیہ پسمہ نہیں ہے۔ اور بغیر ولیمہ کے جماعت میں سخت نزاع پیدا ہوتی ہے۔ اس حالت میں دلہن کا والد کیا کرے۔ یا قرضہ لے کر دعوت ولیمہ کرے۔ ہمارے اطراف میں دلہا کے والد کی طرف سے بیس پچیس روپیہ دیا جاتا ہے۔ خود دختر والا اس سے ولیمہ کرتا ہے۔

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

سائل کی مراد غالباً ولیمہ سے دعوت برات ہے۔ اگر یہی مراد ہے تو صورت مرقومہ میں دلہن کے والد کا احسان ہے۔ اگر وہ کرتا ہے تو جائز ہے۔ لیکن اس رسم کو بند کرنا بہت بھجا ہے تاکہ لڑکی والے پر کسی قسم کا بوجھ نہ پڑے مگر مسلمان برادریاں عموماً اس مرض میں مبتلا ہیں۔ خدا بھلا کرے۔ اس شخص کا جو اس رسم کو مٹائے۔

ہذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ شنائیہ امرتسری

جلد 2 ص 331

محدث فتویٰ